

اسلام اور ریاست: چند بنیادی مباحث

ڈاکٹر انیس احمد

اسلام وہ واحد دین ہے جو اپنے ماننے والوں سے ہر قدم پر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ خالقِ کائنات کی نازل کردہ ہدایات و احکام کو غور و فکر اور تحقیق کے بعد اختیار کریں۔ اسی بنا پر قرآن و حدیث اسلام کو نہ ہب، نہیں بلکہ دین، قرار دیتے ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ عَنْتَ اللّٰهُ أَللّٰمُ (آل عمرن ۱۹:۳)

اللّٰہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔

”دین“ قرآن کریم کی ایک جامع اصطلاح ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی حاکیت قائم کرنے سے عبارت ہے۔ دیگر مذاہب میں اگر ان کے بنیادی معتقدات پر سوال اٹھایا جائے تو نوبت اخراج تک جا پہنچتی ہے، جب کہ اسلام چاہتا ہے کہ حق کو شعوری طور پر جانچ پر کھر اختیار کیا جائے۔ عقل و فکر کا یہ کردار تناہیم ہے کہ اسے سنت انبیاً بنادیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات ثانی کے بارے میں رب کریم سے سوالات کے ذریعے تقویت ایمان چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سفرِ حکمت میں حضرت خضر سے سوالات کرنے میں تکلف محسوس نہیں کیا۔

اس تناظر میں کسی غیر مسلم یا کسی مسلمان کا اسلام میں تصویرِ خلافت کے پائے جانے پر استفہام نہ کسی تجھب کا باعث ہونا چاہیے اور نہ یہ ضرورت ہے کہ ایسے سوالات کے پیچھے چھپے حرکات تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بجائے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو سوالات اٹھائے جائیں، ان کا جواب ہدایت کے ان دو مستقل آخذ و مصادر میں تلاش کیا جائے جو قیامت تک

تمام انسانیت کے مسائل کا حل واضح اور بین طور پر فراہم کرتے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس اہم موضوع کا پوری علمی دیانت کے ساتھ معمولی (objective) انداز میں مطالعہ کیا جائے اور تھسب اور مرمومیت کے ہر سایے سے اس بحث **کھلڑکھلا جائے۔** اسلامی تحریکیں آج وجود میں نہیں آئی ہیں۔ ان کے افکار اور ان کا تاریخی کردار ایک صدی پر محیط ہے۔ دینی مدارس بھی صدیوں سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور جو نصاب آج رائج ہے، اس میں تبدیلی اور بہتری کی گنجائش تو بلاشبہ ہے اور اس کی نشان دہی بھی کی جاتی رہی ہے اور کچھ اصلاحات لائی بھی گئی ہیں مگر جن متاخر کا شجرہ نسب آج ان سے جوڑا جا رہا ہے، ان کی کوئی مثال عظیم کی کم از کم ڈیڑھ سو سالہ تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ دین اور یاداست کے تعلق کو معمولی انداز میں دیکھا جائے۔

یہ سوال کہ خلافت اسلامی اصطلاح ہے یا نہیں؟ اسے خود قرآن کریم سے کیا جائے اور جو جواب ملے، اسے محلے والوں کی ناراضی یا خوش نووی سے بلند ہو کر صدق دل سے مان لیا جائے۔ کیونکہ انسانی تعبیرات و تشریحات بظاہر لکنی ہی خوش منظر اور متأثر کن نظر آتی ہوں، ان کو اللہ کے آخری پیغام اور آخری ہادی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا اور اگر وہ ان سے ہم آہنگ نہیں ہیں تو ان کو رد کر دیا جائے گا۔

تصور خلافت

یہ بات کسی تعارف کی محتاج نہیں کہ قرآن کریم میں خلافت کی اصطلاح اپنی مختلف شکلوں میں ا مقامات پر استعمال ہوئی ہے۔ سورہ نور میں فرمایا گیا:

وَعَنِ اللَّهِ الْأَعْلَمُ إِنَّمَا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلَاةَ لَيَسْتَدِلُّنَّ فِي هُنَّا فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَدَلُّ الْمُجْرِمُونَ قَبْلَهُمْ (النور: ۵۵: ۲۳)

اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لا سکیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا پکھا ہے۔

اس آیت میں آگے چل کر فرمایا جا رہا ہے کہ:

وَلَيَمْكُنَ لَّهُمْ مِنْهُمْ أَذْنَادُ لَهُمْ وَإِبَرَانَهُمْ مَدُّ بَعْضِ
نَوْفَاهُمْ أَفَنَا طَيْعُبُهُو نَدِدًا لَا يُسْرِكُونَ بِدَشَيْنَا طَوْمَ مَكَفَرَ بَعْضِ مَلَكَ

فَأَوْلَئِكُمْ لَهُمُ الْفَسِّقُوْر (النور: ۵۵: ۲۳) ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے اور ان کی (موجودہ) حالت خوف کو امن سے بدل دے گا، پس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور جو اس کے بعد کفر کرتے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔
استخلاف فِدَ الْأَذْرَرِ کی یہ قرآنی اصطلاح تقریباً اسی معنی میں سورہ اعراف میں استعمال ہوئی ہے:

قَالَ رَبُّهُمْ لِقَوْمِهِ أَسْتَعِينُوْمَا بِاللَّهِ وَلَا يُنْهَا كَيْفَ يُؤْتَهُمُ اللَّهُ فَقَدْ يُؤْتَهُمْ مَمْوَلَةً مُّوْعَابَهُ طَ وَالْعَاقِبَةُ الْمُفَتَّنَهُ ○ قَالُوا إِنَّا مُؤْمِنُونَ بِمَا قَبْلَهُمْ أَنَّا نَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا طَ قَالَ عَسَدٌ وَبُكْمَمٌ أَرْبُعُهُ لَهُ عَصْمَهُ كَمْ وَيَسْتَلْفِهُ كَمْ فَلَا أَلْأَذْرَرُ فَيَنْتَلِهُ كَيْفَ تَعْمَلُوْر ○ (الاعراف: ۷-۱۲۹) موئیؑ نے اپنی قوم سے کہا ”اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنادیتا ہے، اور آخر کام میا بی انجھی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں“۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا ”تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں“۔ اس نے جواب دیا: ”قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو؟“۔

سورہ انعام میں اسی حوالے سے فرمایا گیا:

وَرَبُّكُمْ الْغَنِيُّ مُّوْلَاهُ طَ إِنَّ رَبَّنَا يُبْلِي لَهُنَّكُمْ وَيَسْتَلْفِهُ مُّوْلَاهُ طَ يَسْأَلُهُ مَكَمًا أَنْشَأَكُمْ مُّوْلَاهُ طَ يَوْمَ الْحِجَّةِ قَوْمٌ أَخْرَيُوْر ○ (الانعام: ۶: ۱۳۳) تمہارا رب بے نیاز ہے اور میر بانی اس کا شیوه ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے، جن کو چاہے، لے آئے جس طرح اس نے تحسیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔

ان تینوں مقامات پر استخلاف کی اصطلاح کی وضاحت قرآن کریم خود کر رہا ہے کہ اس کا

مفہوم اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ایک قوم کو خلافت یا حکمرانی کا دیا جانا ہے۔ ہم نے صرف ان تین مقامات کا ذکر اختصار کی خاطر کیا ہے ورنہ دیگر مقامات پر اور خود تحقیق آدم کے واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ سے انسان کا تعارف جس اصطلاح سے کرایا وہ خلیفہ ہی کی اصطلاح تھی۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم ایک نہیں ۱۳ مقامات پر اس اصطلاح کو اس کی مختلف شکلوں میں استعمال کر رہا ہے تو اسے اسلامی اصطلاح ہی ہونا چاہیے۔

اسلام کا مخاطب: فردی اجتماعی

یہ سوال اٹھانا بھی کسی غیر مسلم اور مسلمان کے لیے منوع نہیں ہے کہ ”کیا اسلام میں ریاست کا کوئی مذہب ہے؟“ یادوسرے الفاظ میں کیا اسلامی ریاست ایک سیکولر ریاست ہے؟ یا ایک وقت میں یورپ میں پائی جانے والی کلیساًی ریاست (Theocracy) کے مقابل ہے؟ گویہ سوال تینا ہے اور نہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے ایک نقی بحث (discourse) یا رِدِ بیانیہ (counter narrative) یا صرف بیانیہ (narrative) کا عنوان دے کر ندرت نیال تصور کر لیا جائے۔ یہ بات مستشرقین اور مغربی جماعت سے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کر آنے والے دانش ور سیکڑوں مرتبہ دُہراتے رہے ہیں۔ ان دانش ورروں کا اصل مسئلہ وہ تصویر علم اور تصویر تحقیق ہے جس کے زیر سایہ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کو مکمل کرتے ہیں، چنانچہ غیر محسوس طور پر وہ تحریک طریق تحقیق (Empirical Research Methodology) پر ایمان بالغیب لانے کے بعد، اسی عینک سے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو انھیں اسلام سیکولر نظر آتا ہے یا تھیا کریں۔ اس لیے ہم نے آغاز میں یہ گزارش کی کہ اسلام اور ریاست کے موضوع پر ایک معروضی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وہ ”جوابی بیانیہ“ کا مرکزی تصویر یہ مفروضہ ہے کہ ”اسلام کی دعوت اصلًا فرد کے لیے ہے۔ وہ اس کے دل و دماغ پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جواحیم معاشرے کو دیے ہیں، ان کا مخاطب بھی وہ افراد ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے میں ارباب حل و عقد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دعویٰ اپنے اندر صرف جزوی صداقت رکھتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کو نصف سچائی (half truth) ہی کہا جاسکتا ہے جو ایک کے بعد وسرے مغلطے کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے اور پورے بیانیے کو تضادات کی آماج گاہ بنادیتا ہے، اور صورت حال یہ ہو جاتی ہے۔

خشتِ اول چوں نہدِ معمار کج
تا شریا می رو دیوار کج
بلاشبہ فرد کی اصلاحِ اسلام کی دعوت کا اہم ستون اور نقطہ آغاز ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فرد از اول تا آخر اجتماعیت کا حصہ ہے۔ وہ خود اس دنیا میں اپنی کسی مرضی سے وجود میں نہیں آتا۔ اللہ کی مشیت کے مطابق دو افراد کے لیے ایک اجتماعی فیصلہ اور عمل کے نتیجے میں اس کے سفرِ حیات کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسری مخلوقات کی طرح اپنی بقا اور ترقی و تکمیل کے لیے اس کا انحصار بنیادی طور پر جینیاتی (genetic) عوامل پر نہیں بلکہ جینیاتی عمل کے ساتھ ساتھ اس کو سماجی اور اداراتی عوامل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مرغی کا چوزہ اندٹے سے نکلنے کے ساتھ ہی اپنا رزق تلاش کرنے کی صلاحیت لے کر آتا ہے لیکن انسان کا بچہ ماں کی گود اور اس کے دودھ کا محتاج ہے۔ تہذیب اور ثقافت کا ورثہ اسے جینیات کے ذریعے نہیں، خاندان، تعلیم اور معاشرے کی آغوش میں حاصل ہوتا ہے۔ وہ ایک خاندان، ایک معاشرے، ایک تہذیب و تمدن، ایک معیشت اور ایک ریاست میں نشوونما پا متا اور اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی دعوت کا مرکز و محور جہاں یہ فرد ہے، وہیں وہ معاشرہ، وہ اجتماع اور وہ ریاست بھی ہے جس سے اسے ہر لمحہ سابقہ درپیش ہے اور اس کی آمانِ جگہ ہے۔

بلاشبہ اسلام جو نظامِ زندگی قائم کرنا چاہتا ہے، وہ فرد کی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرد کا کردار مرکزی اہمیت کا حامل ہے مگر فرد کو جو من سنپا گیا ہے، وہ صرف اپنی اصلاح اور ترقی کیے تک محدود نہیں اور آخرت میں ہر فرد کو فرداً فرداً جو جواب دی کرنی ہے، وہ صرف اس کی ذاتی زندگی تک محدود نہیں بلکہ وہ زندگی کی تمام و سعتوں پر محيط ہے۔ اسلام کی دعوت فرد اور معاشرے دونوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کو پوری زندگی حق و باطل کی کش مکش کے درمیان بس رکنی ہوتی ہے اور جو فرداً اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، وہ پوری زندگی کو اس کی اطاعت اور بندگی میں دینے کا سودا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس عہد کو خرید و فروخت کے ایک معاملے سے تعییر کیا ہے کہ:

بِإِنَّ اللَّهَ أَشْتَرْ دُمَّ الْفُؤَدِيَرَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لِلَّهِ الْجَنَّةَ طَيْفَاتٌ وَرَ

فَدِسْبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُوْرَ وَيُقْتَلُوْرَ قَفَ— وَعَمَّا عَلَيْهِ حَفَا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ طَ وَمَرْأَوْهُ فِي بَعْضِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَشْرُوا بِهِ عِكْرَ الْمَنْزِلِ بِاِيْغُونْ بِهِ طَ وَحَلَّتْ لَهُمُ الْقُوْرُ الْعَظِيمِ ۝ الْتَّابِعُوْرَ الْعِبُودُوْرَ الْحَمْدُوْرَ السَّائِرُوْرَ الْمَكْفُورَ السَّدِيقُوْرَ الْمَؤْمُوْرَ بِالْمَعْوُفِ وَالْتَّاهِرُوْرَ عَرَ الْمُنْكِرِ وَالْحَفْظُوْرَ لِلْمُكْثُوْرَ بِاللَّهِ طَ وَبِشِرِ الْمُؤْمِنِيْرَ (التوبہ: ۹-۱۱-۱۲) حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بد لے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے (جنت کا وعدہ) اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور نجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکالیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلنے والے، اس کی بندگی بجالانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، یہی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے (اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بیع کا معاملہ طے کرتے ہیں) اور اے نبی! ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔

سورہ صاف میں اہل ایمان کا کردار اس طرح واضح کیا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا الْمُبْتَدِئُوْرَ أَمْنُوا إِلَمْ تَقْتُلُوْرَ مَا لَا تَفْعَلُوْرَ ۝ كَبُرَ مُقْنَى عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقْتُلُوْرَ مَا لَا تَنْتَعَلُوْرَ ۝ يَا أَيُّهَا اللَّهُ يَعِدُ الْمُبْتَدِئِ بِقَاتِلُوْرَ وَدِسْبِيلِهِ كَفَا كَانَهُمْ بُنْيَارْ مَرْكُوْرُ ۝ (الصف: ۳-۶۱) اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزد یک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صاف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسے پلاٹی ہوئی دیوار ہیں۔ اور پھر ان کو یہ بشارت بھی دی کہ:

بِرِّيْكُوْرَ لِيَلْفِنُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَاهِهِ فَهُنَّ وَاللَّهُ مُنْتَهٌ نُورٌ وَلَوْ كَفَرُوا وَ
 لَهُ الْبَصَرُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَبِرِّيْقَلِيْطِهِ، عَلَى الْعَبْدِ يُوكِلُهُ
 وَلَوْ كَفَرَ الْمُشْكُوْرَ ○ يَا □ يِهَا الْمَنِيْرَ آمُنُوا هُلْ آمَلُكُمْ عَلَى دِيْبَابَةِ
 تُشْدِيْكُمْ مِنْ عَنَابِ الْبَيْمَ ○ تُؤْمِنُوْرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُبَدِّيْهُوْرَ وَفِي سِيْلِ اللَّهِ
 بِأَمْوَالِ الْكَفَرِ وَأَنْفُسِكُمْ طَ مَذْلُوكُمْ ذَيْ لَكُمْ بَا □ وَكَنْتُمْ تَعْلَمُوْرَ ○ يِغْنِي
 لَكُمْ مُنْتَهِيَّكُمْ وَيِئُذْلِكُمْ جَنْتَهِ تَبْرِيْرَ ○ مِنْ تَجْنَبِهَا الْأَنْتَهِرِ وَمَسْكُونَ لَبِيَّةَ
 فَلَجَنْتَهِ عَبَرِ طَ مَذْلُوكَهَا الْفَوْزُ الْعَلَيْنِ ○ وَأَنْتَهِ تَبْتُبُونَهَا طَ تَسْرُمَهَا اللَّهِ
 وَفَتْنَهُ قَرِيبِ طَ وَبَشِّرِ الْفَوْمِنِيَّ ○ (الصف ۸۱:۲۱) یہ لوگ اپنے منہ کی
 پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا
 پھیلا کر رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو
 ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب
 کردے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو
 وہ تجارت جو تمھیں عذابِ ایم سے بچا دے؟ ایمان لا و اللہ اور اس کے رسول پر، اور
 جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے ماںوں سے اور اپنی جانوں سے۔ یہی تجارت لیے بہتر
 ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمھارے گناہ معاف کر دے گا، اور تم کو ایسے بااغوں میں داخل
 کرے گا جن کے نیچے نہیں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی حنتوں میں بہترین گھر تمھیں
 عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو، وہ بھی تمھیں
 دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی!

اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔

فرد کی زندگی حق و باطل اور بیکی اور بدی کے درمیان کش مکش کے درمیان گزرتی ہے اور
 فرد کی اصلاح کا مقصد اس کش مکش میں اس کے صحیح کردار کی ادائی ہے۔ اس پر گرفت صرف اس
 بات پر نہیں ہوگی کہ اس کے انفرادی کردار یا محکمات میں کیا خرابی یا کوتا ہی ہے بلکہ اس پر بھی ہوگی
 کہ جس معاشرے میں وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کو ظلم اور طاغوت کی حکمرانی سے نجات دلانے میں

اس نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے کہ فرد کا اپنی ذات کا تزکیہ اور اجتماعی زندگی کی اصلاح اور تاریخ کے دھارے میں حق پرستی اور عدل و انصاف کی کوشش کی جدوجہد میں تعاون ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ فرد کی اصلاح کو مرکزی اور کلیدی مقام حاصل ہے مگر دنیا میں کامیابی اور آخوت میں نجات کا انحصار صرف فرد کی اصلاح پر نہیں بلکہ اصلاح یافتہ افراد کے اس کردار پر ہے جو وہ اپنی اصلاح کے ساتھ معاشرے کی اصلاح، اور انسانی زندگی کے ادارے کی الہامی بہایت کی روشنی میں تعمیر اور تکمیل نو کے لیے انجام دیتے ہیں، اور بالآخر تاریخ کے دھارے کو اللہ کی بندگی میں ڈھانے اور انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کے قیام کے لیے انجام دیتے ہیں۔ فرد اجتماعیت کا حصہ ہے۔ معاشرے میں معیشت اور تمدن میں خیر و شر کے درمیان جو کوشش برپا ہے اس میں احتقانِ حق اور ابطالِ باطل کے لیے فرد جو کردار ادا کرتا ہے اور جدوجہد میں حصہ لیتا ہے، اس بھی گیر جدوجہد کا نام جہاد ہے جو ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ جہاد اپنے نفس کی اصلاح اور نفس امارہ کو زیر کرنے سے شروع ہوتا ہے لیکن جہاد بالسان، جہاد بالعمل اور جہاد بالسیف سے عبارت ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ماضی میں جو مشن انیمیاے کرام نے انجام دیا، نبی آخر الزمانؐ کی سنت کے طور پر اب امت کی ذمہ داری ۔۔۔ ہر ہر فرد کی ہے۔ امت کا بھیتیت امت اس مقصد کے لیے اجتماعیت اور امامت کا قیام بھی ضروری ہے۔ فرد اور اجتماعیت دونوں کو اس وظیفے کو انجام دینا ہی اسلام کا مقصود و مطلوب ہے۔ اس کا کام اقامتِ دین ہے اور یہی اختلاف کا تقاضا ہے۔ شاہ ولی اللہ از الہ الخفا میں امت کے اس مشن کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

خلافت اس عمومی سربراہی اور ریاستِ عامہ کا نام ہے جو اقامتِ دین کے کام کی تکمیل کے لیے وجود میں آئے۔ اس اقامتِ دین کے دائرے میں علومِ دینیہ کا احیا، ارکانِ اسلام کا قیام، جہاد اور اس کے متعلقات کا انتظام، مثلاً لشکروں کی ترتیب، جنگ میں حصہ لینے والوں کے حصص و مال غنیمت میں ان کا حق، نظام قضاء کا اجراء، حدود کا قائم کرنا، مظالم اور شکایات کا ازالہ، امر بالمعروف اور نبی عن الممنکر کے فرض کی ادائی شان ہے اور یہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور نمایندگی میں ہونا چاہیے۔

فرد کی اصلاح اس ہمہ گیر مقصد کے لیے ہے، خود مقصود بالذات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صاف الفاظ میں متنبہ کر دیا ہے کہ فرد کی محض اپنی ذات کی اصلاح کافی نہیں مگر معاشرے کے بگاڑ کی زد بھی اس پر پڑتی ہے، اور اگر وہ اس کی اصلاح اور اسلامی اصولوں کے مطابق اجتماع کے ہر ادارے میں انصاف اور عدل کے قیام سے غافل رہتا ہے تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا:

يَا أَيُّهَا الَّٰهُنِيَّرَ مَأْتُوا مَسْتَدِينِ بِاللَّٰهِ وَالرَّسُولِ إِنَّمَا يَعْكِمُ لِمَا يَتُّبِّعُكُمْ وَ
إِنَّمَا يَغْلِفُ عَنِ اللَّٰهِ يَقُولُ يَقُولُ إِنَّمَا يَغْلِفُ عَنِ اللَّٰهِ فَتَنَّةً لَا
تُحِسِّنُونَ إِنَّمَا يَغْلِفُ عَنِ اللَّٰهِ شَيْئًا فَتَنَّةً لَا

تُحِسِّنُونَ إِنَّمَا يَغْلِفُ عَنِ اللَّٰهِ شَيْئًا فَتَنَّةً لَا

تُحِسِّنُونَ إِنَّمَا يَغْلِفُ عَنِ اللَّٰهِ شَيْئًا فَتَنَّةً لَا

(انفال: ۸-۲۵) اے لوگو جو بیمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جب کہ رسول تمھیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمھیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سیئے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انھی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔

اسلام کا طرہ امتیاز ہی یہ ہے کہ اس نے فرد اور اجتماعیت کے درمیان توازن قائم کیا ہے۔ نہ انفرادیت کو اس حد تک آزاد چھوڑا ہے کہ انسان اپنی ذات کے سوا کسی کو خاطر میں نہ لائے اور نہ اجتماع، جماعت اور ریاست کو ایک شتر بے مہار بننے کا موقع دیا ہے کہ فرد، اس کی آزادی، حقوق اور تعمیر میں اور تشكیلی کردار کی نفی کر دے اور اسے مشین کا ایک بے جان پر زہ بنا دے۔ اس نے فرد کو اہم ترین اکائی بنایا ہے لیکن جس کلے کی بنیاد پر وہ اللہ کا بندہ بتتا ہے اور رب کے خلیفہ کا مقام حاصل کرتا ہے، اس کلمے کی بنیاد پر اسی لمحے ملتِ اسلامیہ اور حزبِ اللہ کا رکن بن جاتا ہے اور جماعت کی تقویت کا باعث اور اس کے ڈسپلن کا پابند بن جاتا ہے۔ یہ توازن اور توافق زندگی کے ہر میدان میں قائم کیا گیا ہے خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا کام و دہن کی لذت سے، خاندانی زندگی سے ہو یا معاشری سرگرمی سے، سیاست سے ہو یا معاشرت سے، ادب سے ہو یا ثقافت سے۔

بقول اقبال۔

فرد قائمِ ربطِ ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں

موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

آئیے، اسلام کے اس تاریخی کارنامے کے چند پہلوؤں پر غور کریں تاکہ اسلام اور ریاست کے تعلق کو سمجھنے اور استحلاف کے کردار کی ادائی اور اس کے تقاضوں کے صحیح ادراک اور ان کو پورا کرنے کے لیے جو منجع دین نے مقرر کیا ہے اور جس کا بہترین نمونہ حضور اکرمؐ نے مکہ اور مدینہ کی زندگی میں پیش فرمایا اور جس کا تسلسل دور خلافت راشدہ میں به تمام و کمال تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اور امت کے لیے ہمیشہ کے لیے روشنی کا مینار ہے، اس منجع کی روشنی میں اجتماعیت کے بارے میں اسلام کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات کا آغاز ہم خود عبادات پر غور و فکر سے کرتے ہیں۔

حاکمیت اعلیٰ کا اختیار

اسلام کا تصور عبادت دیگر مذاہب سے جو ہری طور پر مختلف اس بنا پر ہے کہ یہاں مسئلہ محض ذاتی نجات (Personal Salvation) کا نہیں ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے افراد کی اصلاح اور اخروی کامیابی کی فکر کا ہے۔ آخرت میں جواب دی بھی نہ صرف انفرادی ہے بلکہ ہر مسلمان کو جواب دینا ہوگا کہ اگر اس تک صرف ایک آیت ہی پہنچتی تو کیا اس نے اسے دوسروں تک پہنچایا؟ اپنے ماحول، معاشرے اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے اپنی صلاحیت و اختیار کو کہاں تک استعمال کیا؟ قرآن کریم نے دو ٹوک انداز میں فرمایا ہے:

يَا إِنَّهَا الْأُنْيَرُ أَنْتُمْ قُوَّا أَنْفُسَكُمْ وَإِلَّا يُكَفَّرَ نَارًا

وَقُوَّتُمْ لَهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ (التحریر ۶:۶۶)

اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔

اسلام کے تصور عبادت کی روح اجتماعیت میں ہے۔ وہ نماز ہو یا زکوٰۃ کا نظام یا عمرہ اور حج یا روزہ اور جہاد ہو، ہر عبادت اجتماعیت کا پہلو رکھتی ہے اور اجتماعی طور پر معروف کے قیام اور منکر اور فواحش کے انسداد کی تعلیم دیتی ہے۔

قرآن کریم نے توحید کی اسلامی تعلیم کے ذریعے اس غلط فہمی کی اصلاح کر دی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ توحید کا مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت

محض اس گوشت کے لوٹھڑے تک محدود نہ کر دی جائے جس کا نام قلب ہے بلکہ اس قلب کو مژکی کرنے کے بعد پورے جسم اور زندگی کی تمام وسعتوں پر اس کی حکمرانی قائم کی جائے، تاکہ جسم انسانی کے ساتھ کاروبار حیات کے تمام شعبوں میں اللہ کی حاکمیت اور حتمی اقتدار کو نافذ کیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام فرد کا تودین ہو لیکن جس نظام سیاسی میں وہ رہے وہ مشرکانہ، جاہلیہ یا مادہ پرست ہو۔ اگر ہم قرآن کریم سے اس کا جواب پوچھیں تو صاف طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ تمطی، اقتدار، حکم اور حرف آخر اگر کسی کا ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ صرف وہ مقتدر اعلیٰ (Sovereign) ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی ارشاد ہوا:

يَسَّأَلُونَهُ أَنْ يَأْبِيَ مُتَعَفِّفًا وَهُنَّ مِنْ أَمْلَأِ الْأَوَادِ الْقَبَّارِ ۝
نَعْبُدُهُ وَمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَشْعَارًا ۝ سَمَّيْنَاهُ لَا أَنْتَ وَلَا أَنَا ۝ وَكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
سُلْطَنٍ ۝ إِنَّ الدِّكْرَ مِنَ اللَّهِ ۝ أَمَّا إِلَّا تَعْبُدُنَّ ۝ إِلَّا إِيمَانُهُ ۝ مُنْلَى الْبَيْنِ
الْقَيْمِ وَلَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَغْلَفُونَ ۝ (یوسف: ۳۰-۳۹)

(یوسف: ۳۰-۳۹) اے زندگی کے ساتھیو! تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم اور تمھارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہ ازدھ نہیں کی۔ فرمائیں روائی کا اقتدار (حاکمیت) اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سواتم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی دین قیم (صحیح طریق زندگی) ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

اس آیت مبارکہ نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ (Sovereignty) کے الفاظ استعمال کر کے یہ بات طے کر دی کہ کوئی انسان Sovereign نہیں ہو سکتا۔ حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ حاکمیت کا دائرہ اثر صرف ذاتی معاملات میں نہیں بلکہ یکساں طور پر سیاسی، معاشری، معاشرتی، شفافی، قانونی اور بین الاقوامی معاملات میں بھی ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم، اعلیٰ اور اکبر ہو لیکن پارلیمنٹ میں پارلیمان اعلیٰ، اکبر اور عظیم بن جائے۔ اور پارلیمان طے کرے کہ اسلام کے کس حکم کو مانا اور نافذ کرنا ہے اور کس کو نظر انداز کر دینا ہے۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ

اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجد میں تو سجدے کا مستحق ہو لیکن بازار میں کھوٹے سے کے سجدے کے مستحق بن جائیں، یا نام نہاد شفاقت دنیا میں عربیانی، فاشی اور صنم پرستی تہذیب کا معیار بن جائے۔
اسلام میں داخلہ کوئی جزو قوت کام نہیں ہے کہ جمع کے دن مسجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مان لیا جائے اور یقینہ دونوں میں ذاتی مفاد، شہرت اور دولت، پاریہمان کی رکنیت علمامت بندگی بن جائے۔
خلافت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ سیاسی نظام جس میں حکومت اور حکام اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہوں۔ یہ نہ تھیا کریں ہے نہ امریت، نہ فوجی ڈکٹیٹریشپ، نہ موروٹی بادشاہت اور ملوکیت۔

خلافت، تاریخ کی روشنی میں، انبیاء کرام کی پیروی کرتے ہوئے خالق کائنات کی شریعت کو اس کی زمین پر اور اس کی مخلوق پر نافذ کرنے کا نام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہوں یا حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام، ان سب کا اسوہ استخلاف فی الارض، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کا خود اس معاملے کو واضح کر دینے کے بعد کسی دانش و رانکتہ سنجی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

اگر پھر بھی اصرار کیا جائے تو معروضی طور پر اس دور کے معروف مفسر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم کی تالیف اسلامی ریاست (مطبوعہ لاہور، داراللہ زیر کیر ۲۰۰۲ء) کے صفحات ۱۸ تا ۲۲ کا مطالعہ کر لیا جائے۔ کم از کم وہ حضرات جو مجازی طور پر انھیں کسی وقت اپنا استاد مانتے رہے ہوں، ان صفحات کا مطالعہ ان کے تصورِ خلافت کے خطوط پر چھائی ہوئی دھنڈ کو آسانی دو کر دے گا۔

مولانا اصلاحی اس حوالے سے خلافت کے آٹھ تفہمنات پر روشنی ڈالتے ہیں: ۱- یہ کہ خلافت کا شعور خود انسانی فطرت کا مقتضا ہے۔ ۲- یہ کہ اس زمین پر انسان کا فطری منصب ایک خود مختار اور مطلق العنان ہستی کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب کا ہے۔ ۳- یہ کہ اس زمین پر اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ۴- یہ کہ مشاہ تخلیق کے اعتبار سے اس منصب کے اہل سارے انسان ہیں۔ ۵- اس منصب کی ذمہ داریوں کی ادائی میں اگر انسان اللہ کی اطاعت نہ کرے تو فساد فی الارض کا ہونا یقینی ہے۔ ۶- یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بغیر ہدایت و رہنمائی

کے نہیں چھوڑا ہے۔ ۷۔ یہ کہ خلافت کی اساس وطن، نسل، نسب یا قبیلہ نہیں ہے بلکہ خلافت ایک اصولی اور نظریاتی ریاست ہے۔ ۸۔ یہ کہ اسلام کا سیاسی نظام عدل و مساوات کو پیشی بنتا ہے۔

اسلام میں تصورِ قومیت

اسلام میں قومیت کی بنیاد اسلام نہیں ہے جس طرح عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کسی جگہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ایک قوم ہیں یا انھیں ایک ہی قوم ہونا چاہیے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ **إِنَّمَا الْفُوْنُودُ إِلَّا قَوْمٌ** (مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں)۔ تحریک پاکستان کے خالقین کا استدلال یہی تو تھا کہ مسلمان کوئی الگ قوم نہیں ہیں۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد مر حوم، مولانا حسین احمد مدینی مر حوم اور جمیعت علماء ہند کے دیگر زعماً نے اس تعبیر پر ایمان رکھتے ہوئے انہیں نیشنل کانگریس کا ساتھ دیا، جب کہ علامہ اقبال، مولانا شیخ احمد عثمنی، مولانا عبد الحامد بدایونی اور مولانا مودودی نے مسلمانوں کے ایک الگ قوم ہونے کے تصور کی نہ صرف حمایت کی بلکہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب مسیٹۂ قومیت میں جمیعت علماء ہند کے تصورِ قومیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں روکیا اور مسلم لیگ نے اس کتاب کو بڑے پیمانے پر ملک میں تقسیم کیا۔ مسلمانوں کے ایک قوم ہونے کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسوی ایٹھ پریس امریکا کے نامہ نگار سے گفتگو کرتے ہوئے تصورِ قومیت کی وضاحت اس طرح کی تھی:

ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف بہت گہرا ہے اور اسے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ ہم ایک قوم ہیں، ہماری نمایاں ثقافت اور تہذیب، زبان اور ادب، فن اور تعمیرات، نام اور نام رکھنے کا نظام ہے۔ نسبت اور تناسب کا شعور، قانون اور اخلاقی ضابطے، روانی اور جنسی، تاریخ اور روایات، میلان طبع اور امکونوں کے اعتبار سے محض رازندگی اور زندگی کے متعلق ہمارا اپنا نمایاں نقطہ نظر ہے میں الاقوامی قانون کے جملہ ضابطوں کے لحاظ سے ہم ایک قوم ہیں۔ (قائد اعظم: تقاریر و بیانات، جلد سوم، ترجمہ: اقبال احمد صدیق، امریکی نامہ نگار سے گفتگو، بمبئی، یکم جولائی ۱۹۳۲ءی، ص ۶۷)

قرآن کریم اہل ایمان کو ایک دوسرے کا بھائی اور ایک سیسہ پلاٹی دیوار اور نخیر امت یا 'امت وسط' کے نام سے پکارتا ہے۔ اس امت کی بنیاد نہ رنگ ہے، نہ نسل، نہ زبان، نہ جغرافیائی

سرحدیں۔ اس کا نظریہ حیات اسے ایک قوم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پاکستان کا وجد میں آنا اس کی روشن دلیل ہے۔ عظیم کے پھان ہوں یا پنجابی یا سندھی اور بلوچ، ان کی پہچان اور تشخض واحد قوم کی شکل میں پاکستانی ہونا ہے۔

مولانا حسین احمد مدنی مرحوم پر علامہ اقبال کی شدید تقدیر اور یہ سوال اٹھانا کہ ہند میں مسلمان سید بھی ہیں، مرزا بھی ہیں، افغان بھی ہیں لیکن ان سب حوالوں کے ساتھ کیا وہ مسلمان بھی ہیں؟ دراصل نسل اور ذات پر مبنی قومیت کے علم برداروں کے موقف پر یہ بات واضح کرنا تھا کہ ان کی یک جہتی اور ایک قوم ہونے کی اصل بنیاد اسلام ہے۔

قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کر کے اس غلط فہمی کہ ”ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا“، کی اصلاح کر دی ہے۔ فرمایا گیا:

الْأَنْيَرُ إِنْ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقْأَافُهَا السَّلَوةُ وَأَنَّهُمْ الْمَكْوُتُوْهُمْ وَأَمْرُهُمْ
بِالْمَعْدُوْفِ وَنَهْرُوْهُمُ الْفَكِيرُ ط (الحج: ۲۱: ۲۲) یہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار کر جیں تو وہ (نظام) نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔

ان چاراً ہم کاموں کو کون کرے گا؟ کون زکوٰۃ وصول کر کے تقسیم کرے گا؟ محصلین زکوٰۃ کا تقرر کون کرے گا؟ کیا لوگ بزم خود محصلین زکوٰۃ بن جائیں گے؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ریاست پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل کو بھلائی کے قائم کرنے اور منکروں کو دُور کرنے میں صرف کرے اس کی تمام انتظامیہ منکر کو مٹانے میں لگ جائے۔

آیت کا واضح مفہوم سیاسی اقتدار کے ذریعے بھلائی کو عام کرنا اور منکر و فحش کو دُور کرنا ہے۔ اگر اسلام ایک انفرادی دین ہے تو پھر قرآنی قوانین و حدود کا اجراؤں کرے گا؟ قاضی کا تقرر کون کرے گا؟ جہاد کا اعلان کون کرے گا؟ کیا یہ سب کام انفرادی طور پر کیے جائیں گے اور اگر کیے جائیں تو کیا کوئی نظم و ضبط اور قانون کا احترام ہو سکتا ہے؟ یا اسلام کے ہر حکم کی روح کے مطابق تعییل اسی وقت ممکن ہے جب اقتدار اور ریاست مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تابع ہو۔ یہ کہنا کہ شرک، کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرم ہیں لیکن ان کی سزا کوئی انسان نہیں دے

سکتا، قرآن کریم کے واضح احکامات سے متصادم ہے۔ قرآن کریم مسلسل نبی کریم اور اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ: وَقَاتِلُوهُمْ تَتَّلَوْ لِلتَّكُوْنَ فَتَّنَّهُ وَيَعْلَمُوا الْجَنَّةُ كَلْمَهُ اللَّهِ فِي أَنْتَهِيَةِ أَفَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ”ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے“ (انفال:۸)۔ نہ صرف یہ بلکہ رسول اللہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اہل ایمان کو جنگ پر ابھاریں۔ يَا أَيُّهُمَا الَّتِيْلَدُ تَرِضُ الْفُوْمِنِيْرُ (انفال:۶۵) ”اے نبی! مومنوں کو جنگ پر ابھارو“۔ اللہ چاہتا ہے کہ مشرکین اور کفار کے خلاف گھوڑے تیار رکھے جائیں۔

آخران تمام احکامات کی ضرورت کیا تھی اگر کفر و شرک کی سزا صرف یوم الحساب کے بعد ہی دی جانی تھی! مشرکین اور کفار کا آخری ٹھکانا تو جہنم ہو گا ہی لیکن اس دنیا میں ان کے خلاف جہاد کا حکم دو ٹوک الفاظ میں دیا گیا ہے: يَا أَيُّهُمَا الَّتِيْلَدُ بَالْجَنَّةِ الْكَفَارَ وَالْفَنَفِقِيْرَ وَالْغُلَطَ عَلَيْهِمْ طَوْعًا لَفِيْمَ بَعْدَهُمْ طَوْعًا لِلْمُكَبِّرِ ۝ (التوبہ:۹) ”اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آو۔ آخر کار ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بدترین جاے قرار ہے۔“

شرک اور کفر ہی نہیں جو لوگ اللہ اور رسول^ﷺ کے خلاف جنگ کرتے یا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ ان کو بھی اس دنیا میں سزا دے۔ ”جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسول^ﷺ سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دوکرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں، یا سویل پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف ستمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلاوطن کر دیے جائیں۔ یہ ذات و رسولی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے“ (المائدہ:۵)۔ اس دنیا میں سزا کا نغاذا کون کرے گا اگر ریاست قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتی ہو اور اگر ہر گمراہی کی سزا صرف آخرت میں دی جانی ہو؟ علی دیانت کا تقاضا ہے کہ خلط مجھث نہ کیا جائے اور قرآن کریم اور سنت مطہرہ کے واضح احکام کو بلا کسی دلیل کے مختلف فیہ نہ بنایا جائے۔ اس طرز فکر (mind-set) کو نہ توجہت سے اور نہ اجتہاد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف رائے بلاشبہ امت کے لیے رحمت ہے لیکن اسی وقت تک جب اختلاف ادب کے دائرے میں کیا جائے۔ اسلام کی بنیادوں کو

چھوڑ کر کوئی اور راستہ نکالنا دین کی حکمت سے متعارض رویہ ہے۔

قرآن کریم اور دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان، قرآن و سنت کو پاریمان سے بالا قرار دیتا ہے، اس لیے اگر تمام دانش و رمل کر بھی یہ مطالبہ کریں کہ پاریمان حرف آخر ہونی چاہیے، تو قیامت تک نہ امتحان مسلم کا ضمیر اور نہ دستور پاکستان اس طرز فکر کو درست تسلیم کرے گا۔

انتہا پسندی کی تکرار

ہمارے ملک کے ابلاغی عامة میں، خواہ وہ اخباری صحافت ہو یا برقی ابلاغی عامة، گذشتہ دو دہائیوں سے مسلسل ایک بات کی تکرار کی جا رہی ہے کہ دینی مدارس کا نصاب انتہا پسندی پیدا کرتا ہے۔ ایک سوال عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اگر یہ وہی نصاب ہے جسے مُلا نظام الدین سیالوی نے مرتب کیا تھا اور جسے دیوبند، سہارن پور اور بریلی کے مدارس میں اور بعض اصلاحات کے ساتھ فرنگی محل اور بعد میں ندوۃ العلماء میں بطور بنیاد کے استعمال کیا گیا تو کیا ان تمام مدارس سے صرف دہشت گرد اور انتہا پسندی پیدا ہوئے؟

کیا صورت حال کچھ ایسی نہیں ہے کہ جہاں افغانستان کے بعد جب ہوا کا رُخ بدلا تو جو کل تک مجاہد تھے، وہ دہشت گرد قرار دیے جانے لگے۔ مزید یہ کہ جن مدارس کے طلبہ کو تربیت دے کر طالبان کے نام سے افغانستان کی حکومت کے خلاف کھڑا کیا گیا وہی ہوا کا رُخ بدلنے پر شدت پسند اور جدیدیت کے لیے خطرہ بن گئے۔

یہ سوال بھی غور طلب ہے کہ کیا سیکولر تعلیم اعتدال پسندی، رواداری، صبر و تحمل اور انکساری پیدا کرتی ہے یا سیکولر ازم خود ایک انتہا پسندانہ تصور ہے جو اپنی حقایق کے علاوہ کسی اور بات کو حق نہیں مانتا، اور خصوصاً دین کو ذاتی معاملہ قرار دے کر مسجد، چرچ یا مندر تک محدود کر دینے کو پناہنچ سمجھتا ہے۔ کیا اسی کا نام رواداری، برداشت اور تکثیریت (Pluralism) ہے؟

اسی سلسلہ کلام میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اسلامی تحریکات اور مذہبی و سیاسی جماعتیں شب و روز انتہا پسندی کی تبلیغ کرتی ہیں۔ اس تجہیل عارفانہ پر سوائے حیرت کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ تحریکاتِ اسلامی وہ واحد ادارہ ہیں جنہوں نے فرقہ واریت، مسلک پرستی اور تنگ نظری اور عدم رواداری کے خلاف ہمیشہ جدوجہد کی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تحریکاتِ اسلامی اجتہادی تحریکات

بیں جو مرد و مذہبیت سے ہٹ کر دین کی جامع اور متحرک تصویر پیش کرتی ہیں تو بے جانہ ہوگا۔ انڈونیشیا، ترکی، شام، سوڈان ہو یا پاکستان اسلامی تحریکات نے اپنے اپنے حالات کے مطابق اور اپنے اپنے انداز میں ہمیشہ شدت پسندی اور انہتا پسندی کے منطقی رو اور علمی حاکم کے ذریعے ایک متوازن اور عدل پر مبنی معاشرے کے قیام کی جدو جدد کی ہے۔ حتیٰ کہ وہ جماعتیں بھی جن کی پہچان میں مسلک کا بھی ایک کردار اور رنگ ہے، مثلاً: جمیعت علماء پاکستان یا جمیعت علماء اسلام یا جماعت اہل حدیث یا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، وہ بھی دستوری جدو جدد پر لیکن رکھتی ہیں، اور پاکستان کے دستور میں طے شدہ شورائی اور جمہوری نظام ہی کو اپنی سیاست کا مرکز و محور بنانے ہوئے ہیں۔ ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ جس دستور کو پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے اور جس میں اسلام کے کم سے کم تقاضوں کو سمودیا گیا ہے، اس پر اس کی اصل روح کے مطابق مکمل طور پر عمل کیا جائے اور جو بھی اس دستور کا منکر یا اس سے منحرف ہوا سے اپنارستہ جدا رکھیں۔

حقیقت پسندی کا تقاضا

پاکستان کے تناظر میں تحریک اسلامی نے ہمیشہ دستوری ذرائع سے ہی ملک میں اصلاح اور تبدیلی کو درست سمجھا ہے اور اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ علم سیاست کا ہر طالب علم اس امر سے آگاہ ہے کہ ریاست مقتضی، عدالتی اور انتظامیہ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یہ تینوں اعضا دستور کے تحفظ کے ذمہ دار اور امین ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ایک دستور جس پر ایک ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا ہو، ریاست کو اسلامی قرار دیتا ہو اور حکمرانی کے لیے بھی اسلام پر ایمان اور اسلام کے نفاذ کا عہد، عہد نامہ صدارت و وزارتی عظمی میں شامل ہو، تو پھر یہ کہنا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اسے دستور سے وفاداری نہیں کہا جاسکتا۔

اسلام حکمرانی کے آداب میں اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ حکمران اور قاضی بغیر کسی تعصب اور فرقہ پسندی کے عدل اور مکمل عدل کے ساتھ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے معاملات کا فیصلہ کریں۔ اس لیے ریاست اور ریاست کے اہل کاروں کا ایمان دار ہونا ہی عدل و انصاف کی ضمانت دے سکتا ہے۔ ایمان اور تقویٰ میں جتنی کمی ہوگی، ظلم و نا انصافی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ ایک سیکولر نظام اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ سے آزاد قرار دیتا ہے، اس لیے ایسے

نظام میں خداخونی کے ساتھ فیصلہ کرنے کا کوئی منطقی جواز نہیں رہتا۔ چنانچہ نفسانی، اقرباً پروری اور ظلم و استھصال بغیر کسی رکاوٹ کے معاشرے کو اپنا شکار بنالیتا ہے۔

اسلامی ریاست انبیاء کے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے اور مدینہ منورہ میں قائم کی جانے والی اسلامی ریاست میں ہمیں وہ اصول کا فرمان نظر آتے ہیں جو قیامت تک کسی بھی معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کا مقصد اس کے بانیوں کی نگاہ میں صرف اور صرف بھی تھا کہ یہاں قرآن و سنت کا نظام رائج ہو اور یہ دنیا کے سامنے اسلامی ریاست کی شکل میں ایک قابل عمل نمونہ پیش کر سکے۔

ایک جانب یہ اصرار کہ نماز عید اور جمعہ سربراہِ مملکت پڑھائے اور دوسری جانب یہ تصور کہ ریاست سے نفاذِ شریعت کا مطالبہ بھی نہ کیا جائے۔ ایک گھرے نضاد کا پتاؤ دیتا ہے۔ دین اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ یہ مناسکِ عبودیت کو مسجد تک محدود نہیں کرتا بلکہ عدلیہ اور متقنہ کو بھی اللہ کی بندگی کا پابند بناتا ہے۔ متقنہ وہی قانون سازی کر سکتی ہے جو قرآن و سنت سے مطابقت رکھتی ہو۔ اس لیے ریاست کے فرائضِ منصوبی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ملک سے قتل و غارت گری کو ختم کرنے کے لیے اپنی قوت نافذہ استعمال کرے۔ وہ ظلم و بغاوت کو دور کرے۔ وہ انسانوں کو اُن کے حقوق دلائے اور مقاصدِ شریعت جو مقاصدِ انسانیت بھی ہیں کا تحفظ کرتے ہوئے دین، جان، عزت، عقل، نسل اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائی ریاستی سرپرستی اور حکمرانی میں انجام دے۔

اسلامی ریاست کا اپنا شخص ہے اور وہ رواتی مذہبی ریاست (Theocracy) اور برل لادیتی قومی ریاست (Liberal Secular Nation State) دونوں سے مکسر مختلف ہے۔ اس میں کسی مذہبی گروہ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی رائے دوسروں پر مسلط کرے، یا اللہ کے نام پر اپنی حکمرانی قائم کرے۔ اسی طرح یہ برل سیکولر ریاست سے بھی مختلف ہے جہاں عوام کی حاکیت کے نام پر ریاست اخلاق اور اقدار کی ہر قید سے آزاد ہو جائے اور حلال و حرام اور حق و باطل کو انسانی اغراض اور اہوا کا تابع بنادے۔

مغرب میں جسے 'قومی ریاست' (National State) کہا جاتا ہے، وہ اپنا ایک خاص تاریخی پس منظر رکھتی ہے اور اس کا کوئی ایک متفق علیہ ماذل بھی نہیں ہے۔ نیز قومی ریاستوں میں

ایک سے زیادہ قومیں بستی ہیں اور تمام اقویٰتوں کے مساوی حقوق کے دعووں کے باوجود رنگ، نسل، زبان، قومیت، مذہب اور ثقافت کی بنیاد پر اقویٰتوں سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے بعد استعماری طاقتوں نے اپنے مفاد کے مطابق اور اپنے اقتدار اور اثرات کو دوام دینے کے لیے سیاسی نقشے کی کثرت بیوںت کی ہے اور مختلف تھببات کو فروغ دے کر اپنے مفاد میں ریاستوں کو وجود بخشا ہے اور انھیں قومی ریاستوں کا عنوان دیا ہے۔ عرب دنیا اور افریقیہ میں یہ کھلیل بڑی چالاکی اور عیاری سے کھلیلا گیا اور اب بھی کھلیلا جا رہا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود متعدد قومی ریاستوں پر مذہب کی چھاپ موجود ہے۔ فرانس سیکولرزم کے نام پر ایک نظریاتی دہشت گردی کا مرتكب ہے۔ اسرائیل مصر ہے کہ وہ ایک یہودی ریاست ہے۔ نیپال ایک ہندو ریاست اور برما ایک بدھ مت کی علم بردار ریاست ہے۔ عیسائیت کہیں Liberation Theology اور کہیں Christian Democracy جسے سب سے بڑی جمہوری ریاست کہا جاتا ہے وہ ہندو تو، کی نسبت ہے مگر ساتھ ساتھ سیکولرنیشن اسٹیٹ، ہونے کی بھی دعوے دار ہے۔

یورپ اور امریکا کی جدید تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس نیشن اسٹیٹ نے عالمی سامراجی نظام کے فروغ اور دنیا کو الٰم ناک جنگوں کی آگ میں جھوٹنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد خود یورپ میں جو ہوا تھیں چل رہی ہیں، ان کا عنوان Beyond Nation State ہے اور یورپی یونین پاٹھ ریاستوں سے ۱۹۵۸ء میں اپنے سفر کا آغاز کر کے آج ۲۸ ریاستوں کا ایک Supranational Political Order قائم کرنے کے سفر میں سرگرم عمل ہے۔ ایک کرنی اور ایک مرکزی بنک بن گیا ہے۔ یورپیں پارلیمنٹ اور یورپین کورٹ وجود میں آچکے ہیں لیکن ہمارے داش ور ہیں کہ ابھی تک 'نیشن اسٹیٹ' ہی کو نمونہ اور مثالیہ بنانے پر مصروف ہیں۔

اسلامی ریاست اللہ کی حاکیت، انسان کی خلافت، قرآن و سنت کی بالادستی اور تمام انسانوں کے درمیان انصاف اور عدل کے ساتھ مشاورت کی بنا پر حکمرانی کا تصور دیتی ہے۔ انسانی حقوق کا تحفظ محض ایک سیاسی مصلحت نہیں بلکہ دین کا تقاضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کا شہرہ ہے۔ اسلام کے نام پر اگر چند گروہ کوئی غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان کی غلطی پر بھرپور

گرفت اور ہر غلط کاری کا سد باب ہونا چاہیے لیکن اس طرح کے انحرافات کی بنیاد پر اسلامی ریاست کے تصور ہی کو غیر ضروری قرار دینا ایک ایسی جسارت ہے جس سے دین کا حلیہ ہی گزرا جائے گا۔ وہ کون سامنہ ہب اور نظریہ ہے جس کے نام پر کچھ لوگوں نے غلط کاری نہ کی ہو۔ جو بھی کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے اس پر گرفت اور غلطی کے جنم کی مناسبت سے جوابی اقدام حق بجانب ہے لیکن اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو گا کہ ایسے بودے سہارے لے کر دین کے مسلمات ہی کو سخ کرنے اور نت نئے بیانیے وضع کرنے کا راستہ کھولا جائے۔ یہ فتنہ اور فساد کا راستہ ہے اور ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔
